




JUBILEE ASSURED RETIREMENT PLAN

HABIBMETRO

جوبلی ایشورڈ ریتائرمنٹ پلان

HABIBMETRO

آپکی ریتائرمنٹ تک آپکے روزمرہ کے اخراجات کافی بڑھ چکے ہوں گے۔ آپکی ریتائرمنٹ کی مکمل منصوبہ بندی کو یقینی بنانے کے لئے حبیب میٹرو پولیٹن بینک، جوبلی لائف انشورنس اپنے تقسیم کار شراکت دار حبیب میٹرو پولیٹن بینک کے ساتھ ایک یونٹ لنکڈ اینڈومنٹ پلان، جوبلی ایشورڈ ریتائرمنٹ پلان پیش کرتا ہے، تاکہ آپ ریتائرمنٹ کے بعد مالی طور پر ہر فکر سے آزاد ہو جائیں۔ یہ پلان آپکووقت ضرورت کے لئے اچھا سرمایہ جمع کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ سرمایہ جشنِ اداہنگی کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔

خصوصیات:

- بچوں کے تعلیمی اخراجات کے لئے خود ساختہ ایجوکیشن ٹرنٹیویشن بینیفٹ کے ذریعے فنڈز کا حصول
- بیمہ کی رقم ازخود مختص کرنے کی سہولت، جو آپکے انتقال کی صورت میں آپکے خاندان اور پیاروں کو ادا کی جائے گی
- مختلف اختیاری فوائد کے ذریعے تحفظ میں اضافہ کی سہولت
- اپنی مرضی کے مطابق فنڈ میں سرمایہ کاری کی سہولت
- پالیسی کی مدت کے دوران کسی بھی وقت اضافی بچت سے اپنی سرمایہ کاری میں اضافے کی سہولت
- پالیسی ہولڈر پالیسی دستاویزات کی وصولی کے 14 دن کے ہر پالیسی کو منسوخ کروا سکتا ہے۔

اہلیت اور معاد:

یہ پلان حبیب میٹرو پولیٹن بینک کے ان تمام صارفین کے لئے ہے جنکی عمر 18 سے 55 سال کی عمر تک ہے۔ پلان کی کم از کم مبادع 10 سال اور زیادہ سے زیادہ 57 سال ہے بشرطیکہ پلان کی تکمیل پر زیادہ سے زیادہ عمر 75 سال ہو۔

پریمیم ادا ہنگی:

پلان کا بنیادی سالانہ پریمیم 24,000 روپے ہے۔ آپ اپنا پریمیم سالانہ، ششماہی، سہ ماہی یا ماہانہ بنیاد پر ادا کر سکتے ہیں۔

تحفظ:

ناگہانی موت کی صورت میں آپکے نامزد کردہ ورغاء، ڈسٹھ بینیفٹ کی صورت میں ایک لاکھ سے دس لاکھ روپے* اور پریمیم ادا نگیاں یا پالیسی کی پیش ویلیو میں سے جو بھی زیادہ ہو حاصل کر سکیں گے۔ پالیسی ہولڈر کو حاصل ڈسٹھ بینیفٹ میں پریمیم کی ادا ہنگی کے مطابق ردوبدل ہو سکتا ہے۔ پریمیم ادا ہنگی میں ایڈ ہاک پریمیم کی شمولیت نہیں ہوگی اور اس میں قمل ازیں کی گئی جزوی دستبرداری کی رقم پہلے ہی کاٹ لی جائے گی (اگر کی گئی ہو تو)۔

* انڈر رائٹنگ کے بتائی گئی پرمختصر

اختیاری فوائد:

جوبلی ایشورڈ ریتائرمنٹ پلان آپکو موقع دیتا ہے کہ آپ مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی اختیاری فائدہ اپنے پلان کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں:

حادثاتی موت:

حادثاتی موت واقع ہونے کی صورت میں اس بینیفٹ کے تحت اضافی رقم کی ادا ہنگی کی جائے گی۔

حادثاتی موت اور معذوری:

حادثاتی موت اور معذوری کی صورت میں اس بینیفٹ کے تحت ایک اضافی رقم کی ادا ہنگی کی جائے گی۔

ہسپتال نریشن کیش رائٹرز:

ہسپتال میں داخلے کی صورت میں یومیہ ادائیگی ہوگی۔ مخصوص پیچیدہ بیماریوں میں سے کسی کی وجہ سے ہسپتال میں داخلے کی صورت میں یہ بینیفٹ دگنا داکیا جائے گا۔ انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخلے کی صورت میں اضافی فوائد کی ادائیگی ہوگی۔ اس بینیفٹ کے تحت بچوں اور جیون ساتھی کو بھی کور کیا جاسکتا ہے۔

فنڈز مینجمنٹ:

جوبلی لائف مندرجہ ذیل فنڈز کی سہولت پیش کرتی ہے۔ آپ چاہیں تو اپنا تمام پریمیم کسی ایک فنڈ میں جمع کروا سکتے ہیں یا چاہیں تو اپنے پریمیم کے حصے کر کے ایک سے زائد فنڈز میں جمع کروادیں۔

1۔ جوبلی لائف بیلنڈ فنڈ

یہ ایک ایسا فنڈ ہے جسے لیبڈی، گورنمنٹ سکیورٹیز اور قابل اجازت اثاثوں کی دیگر وسیع رینج میں متوازن مختص کے ساتھ مسابقتی طویل مدتی منافع پیدا کرنے کے لیے ذہن پنا کیا گیا ہے۔ اس فنڈ کی درجہ بندی درمیانے درجے کے رسک پروفائل والے فنڈ کے طور پر کی گئی ہے

2۔ جوبلی لائف گورنمنٹ سکیورٹیز فنڈ

یہ ایک ایسا فنڈ ہے جسے گورنمنٹ سکیورٹیز، گورنمنٹ سکیورٹیز اور قابل اجازت اثاثوں کی دیگر وسیع رینج ڈیپتھ میں سرمایہ کاری کے ساتھ طویل مدتی پائیدار منافع کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ذہن پنا کیا گیا ہے۔ اس فنڈ کی درجہ بندی کم رسک پروفائل والے فنڈ کے طور پر کی گئی ہے۔

آپ کے پریمیم ، بطور ڈیفنڈ ، جوبلی لائف انشورنس کے جوبلی لائف گورنمنٹ سکیورٹیز فنڈ میں مختص کیے جائیں گے۔ یہ مختلف مدنی مارکیٹ اور سرکاری قرضوں کی سکیورٹیز کے متنوع پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کر کے کم سے کم خطرے کے ساتھ ، درمیانی مدت سے طویل مدتی تک مسابقتی منافع پیش کرتا ہے اور اس میں ایکیٹی سکیورٹیز میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے۔

تاہم ، آپ کے پاس اعلانیہ فہم پر مدتخط کرکے ڈیفنڈ اویسٹمنٹ فنڈ کے علاوہ اپنی پسند کے کسی بھی فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کا اختیار ہے۔

آپ کے سرمایہ کاری شدہ پریمیم کا انتظام ماہر اویسٹمنٹ مینیجرز کے ذریعہ کیا جاتا ہے اور اس کو تقویت پریمیم فنڈیشنل سکیورٹیز سے ملتی ہے تاکہ بہترین منافع کو قابل برداشت خطرے کے ساتھ یقینی بنایا جاسکے۔

آپ کے پریمیم منصوبے کی مدت کے دوران سرمایہ کاری پر منافع حاصل کریں گے۔ منتخب شدہ مدت کے اختتام پر ، آپ کو یقینی جمع شدہ نقد قیمت بھرتش میں مل جائے گی۔

نوٹ: ان فنڈز کی ماضی کی کارکردگی لازمی طور پر ان فنڈز میں سے کسی کی مستقبل کی کارکردگی کی ضمانت نہیں ہے۔

جوبلی لائف کے فنڈ کی یونٹ کی قیمتیں تمام معروف روزناموں اور جوبلی لائف کی ویب سائٹ: www.jubileeife.com پر شائع ہوتی ہیں۔

پلان کی تکمیل:

پلان کی تکمیل پر آپ پالیسی کی کیش ویلیو کے اہل ہوں گے۔ پلان کی تکمیل پر اگر آپکی عمر 55 سال یا اس سے زائد ہو تو آپکو یہ اختیار دیا جائے گا کہ آپ اپنی پیش ویلیو کو پینشن کے طور پر استعمال کر سکیں۔ یہ اختیار خاص طور پر ایسے افراد کے لئے ترتیب دیا گیا ہے جو ریتائرمنٹ پر یکمشت رقم کے بجائے مستقل بنیاد پر ملنے والی رقم کو ترجیح دیتے ہیں۔

ایڈ ہاک پریمیم ادا ہنگی:

جوبلی ایشورڈ ریتائرمنٹ پلان آپکو سہولت دیتا ہے کہ آپ پالیسی کی مبادع کے دوران اضافی رقم کی سرمایہ کاری کرکے اپنی باقاعدہ سرمایہ کاری میں اضافہ کر سکتے ہیں۔

آپکی بچت تک رسائی:

آپ اپنے فنڈز سے کسی بھی وقت (مکمل یا جزوی طور پر) دستبردار ہو سکتے ہیں بشرطیکہ آپ نے پالیسی کے دو سال کا پریمیم ادا کر رکھا ہو۔

• جزوی دستبرداری:

اگر کچھ ہنگامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کیش ویلیو کی ضرورت ہے لیکن آپ پالیسی کو سرینڈر کرنا نہیں چاہتے تو آپ کچھ رقم (جو کہ جوبلی لائف انشورنس کی مقرر کردہ کم از کم رقم کی حد سے مشروط ہے) جزوی طور پر نکالوا سکتے ہیں بشرطیکہ آپ کی پالیسی کے یونٹ اکاؤنٹ میں جزوی دستبرداری کے بعد بھتایا کیش ویلیو 24,000 روپے (کمپنی بھتایا کیش ویلیو کی حد کی نظر ثانی کر سکتی ہے) یا اس سے زیادہ ہو اور دو سال کے پریمیم ادا شدہ ہوں۔ تاہم ، جزوی دستبرداری کے بعد آپ کا سم ایشورڈ جزوی دستبرداری کی رقم کے مساوی کم ہو جائے گا۔ جزوی دستبرداری کا اختیار دو پالیسی سال کی تکمیل اور دو سالانہ پالیسی سال کے پریمیم کی ادا ہنگی کے بعد دستیاب ہوتا ہے۔

• مکمل دستبرداری:

پالیسی کے دو سال مکمل ہونے کے بعد اور دو مکمل پالیسی سال کے پریمیم کی ادا ہنگی کے بعد ، آپ اپنی پالیسی کو سرینڈر کر سکتے ہیں۔ سرینڈر کے وقت ، آپ کو اپنے فنڈز

کی مکمل کیش ویلیو ادا کردی جائے گی۔ تاہم ، ابتدائی پالیسی سالوں میں سرینڈر کے نتیجے میں کیش ویلیو کم ہو سکتی ہے۔

اگر آپ طویل مدت کے لیے جوبلی ایشورڈ ریتائرمنٹ پلان میں سرمایہ کاری جاری رکھتے ہیں تو ، آپ آئے والے سالوں میں زیادہ کیش ویلیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سرینڈر کے وقت، آپ کو اپنے فنڈ کی جمع شدہ کیش ویلیو ادا کردی جائے گی۔ تاہم ، ابتدائی پالیسی سالوں میں سرینڈر کے نتیجے میں کیش ویلیو کم ہو سکتی ہے۔

قیمتوں کا تعین کرنے کا طریقہ

جوبلی لائف فارورڈ یونٹ کی قیمتوں کے تعین طریقہ کار کی پیروی کرتی ہے۔ یہ فنڈ میں سرمایہ کاری کی کل قیمت کو قیمتوں کے تعین کی تاریخ کے مطابق فنڈ میں فعال اکائیوں کی تعداد سے تقسیم کرکے تیار کیا جاتا ہے۔

مزید معلومات:

یونٹ ایلوکیشن:

آپکے پریمیم کی اس طرح ایلوکیشن ہوگی:

پالیسی سال	ایلوکیشن (سالانہ بنیادی پریمیم کا تناسب %)
1	60%
2	80%
3	90%
4 اور اس کے بعد	100%
ایڈ ہاک	100%

آپ کی سرمایہ کاری کے لیے مختص کردہ بونس نیچے دیے گئے جدول میں دیا گیا ہے۔

پالیسی سال	بونس ایلوکیشن (سالانہ بنیادی پریمیم کا تناسب %)
5 اور اس کے بعد	3%

مفت تجرباتی دورانیہ:

جوبلی لائف آپکو 14 دن کے مفت تجرباتی دورانیے کی سہولت پیش کرتی ہے جس کے دوران آپ اپنی پالیسی کی شرائط وضوابط کا جائزہ لے سکتے ہیں اور چاہیں تو پالیسی منسوخ بھی کر سکتے ہیں۔ پالیسی دستاویز کی وصولی کے 14 دن کے اندر آپ کی تحریری درخواست موصول ہونے کی صورت میں آپ کا پریمیم واپس کر دیا جائے گا۔ جوبلی لائف اس سلسلے میں صارف کے طبی معائنے پر ہونے والے اخراجات کی کوئی کا حق محفوظ رکھتی ہے۔

چارجز:

پلان پر درج ذیل چارجز* لاگو ہوں گے:

بڈ / آفر اسپرڈ: بنیادی پریمیم کا 5%

اویسٹمنٹ مینجمنٹ چارج: فنڈ ویلیو کا 1.5% سالانہ

فنڈ سوچنگ چارجز: 500 روپے آگرتی سال چارج سے زائد مختب کیا گیا ہو

اختفائی فیس: 145 روپے ماہانہ

موٹیلٹی چارجز: ایس ای سی پی فائنگل کے مطابق موٹیلٹی چارجز کا اطلاق

پریمیم ایلوکیشن چارج: سالانہ پریمیم مختص کا حساب لگایا جاتا ہے۔ کیونکہ پریمیم کا سو فیصد سال کے لیے مختص کردہ پریمیم کا کم فیصد وصول کرتا ہے۔

* جوبلی لائف کی جانب سے تمام چارجز پر نظر ثانی کی جاسکتی ہے

ڈسکلیمرز:

- یہ پروڈکٹ جوبلی لائف کی جانب سے پیش کی جارہی ہے۔ حبیب میٹرو پولیٹن بینک یا اس سے ملحق ادارہ اس سے متعلق کسی چیز کا ضمان نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ پروڈکٹ بینک کی جانب سے پیش کی جارہی ہے۔

- یہ ایک لائف انشورنس پروڈکٹ ہے جس کے دو الگ الگ عناصر ہیں یعنی انشورنس پروڈکشن اور اویسٹمنٹ۔ سرمایہ کاری کا جزو یونٹ سے منسلک فنڈ (فنڈز) کے تحت بنیادی اثاثوں کی کارکردگی سے منسلک ہے۔

- جوبلی لائف کے فنڈز کی ماضی کا کارکردگی ضروری نہیں ہے کہ مستقبل کی کارکردگی کی نشاندہی کرے۔ کوئی بھی کی گئی پیشین گوئی ضروری نہیں کہ فنڈز کے مستقبل کی کارکردگی کو ظاہر کرے۔ اس سلسلہ میں نہ تو جوبلی لائف اور نہ ہی عسکری بینک لیٹیٹڈ پراس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔

- ذاتی اسٹریٹیشن ہمارے سیلز کی نمائندگی کے جانب سے فراہم کی جائے گی۔ براہ کرم دیگر شرائط وضوابط کی تفصیلات جاننے کے لیے ذاتی اسٹریٹیشن میں دیئے گئے نوٹس کا مطالعہ کریں۔

- براہ کرم دیگر شرائط وضوابط کے تفصیلی جائزے کے لئے پالیسی دستاویزات کا مطالعہ کریں۔

- پالیسی حاصل کرتے وقت بیمہ داری عمر 55 سال ہو یا اس سے کم ہوتو اسے حقی فوائد دیئے جاسکتے ہیں۔
- حبیب میٹرو پولیٹن بینک، جوبلی لائف کے لئے تقسیم کاری حیثیت سے کام کر رہا ہے اور کسی طور پر بھی کسی شخص، بیمہ شدہ فرد وارث کو جواہد نہیں ہے۔
- جوبلی لائف انشورنس اس جہم پالیسی کا انڈر رائٹر اور فراہم کنندہ ہے اور پالیسی کی خدمت، لاجسٹک پروسیسنگ اور انشورڈ کسٹمرز اور مینیجمنٹ کے کلیم کے تصفیہ کا ذمہ دار ہے۔

By the time you retire, your living expenses would have increased significantly. To ensure your retirement is well planned, Jubilee Life Insurance Company with its distribution partner Habib Metropolitan Bank present a unit linked endowment plan 'Jubilee Assured Retirement Plan' - an effective means to achieve financial independence in retirement. This plan helps build substantial capital which can use in time of need. If you require, this capital is applied to provide pension payment.

Features

- Pension option at maturity of the plan for continuation of your life style in retirement years.
- Choice of various optional benefit riders to enhance your coverage.
- Your savings are invested in funds of your choice.
- Select your own life insurance amount, which will be paid to your family or loved ones in case of your death.
- Option to invest your extra savings and top up your investments at any time during the term of your policy.
- Policyholder can cancel the policy within 14 days from receipt of policy documents.**

Eligibility and Term

The plan is available to all customers of Habib Metropolitan Bank from 18 to 55 years of age. The minimum term of the plan is 10 years whereas the maximum term is 57 years, subject to the maximum age at maturity of 75 years.

Premium Contribution

The minimum basic plan premium is Rs. 24,000 per annum. You can pay your premium annually, semi-annually, quarterly or monthly.

Protection

In the unfortunate case of death, your nominated beneficiaries will receive the death benefit between Rs. 100,000 and Rs. 1 million* PLUS return of premiums paid or the cash value of your policy, whichever is higher.

The death benefit available to the policyholder varies with premium contribution . The return of premium does not include any Ad hoc premium and is reduced by prior partial withdrawals made, if any.

*Depending on underwriting outcomes.

Optional Benefits

Jubilee Assured Retirement Plan gives you the opportunity to select the following additional optional benefit riders:

Accidental Death

To provide you extra protection against accidental death, an additional amount will be paid under this benefit if death occurs due to an accident.

Accidental Death or Dismemberment

An additional amount will be paid under this benefit in case death or dismemberment occurs due to an accident.

Hospitalization Cash Rider

A daily benefit is paid if you are confined to a hospital. The benefit payable is doubled in case of hospitalization due to any of the specified critical illnesses. In case of confinement to ICU, additional benefits will be payable. Spouse and children can also be covered under this benefit.

Funds Management

Jubilee Life offers you the flexibility to direct your premiums in part or whole to any of the fund(s) shown below:

- Jubilee Life Balanced Fund**
A fund designed to generate competitive long-term returns with balanced allocation in Equity, Government securities and other wide range of allowable asset classes. It is classified as fund having medium risk profile.
- Jubilee Life Government Securities Fund**
A fund designed to provide sustainable returns over long term with exposure in Government securities, Government securities related instruments and bank deposits. It is classified as fund having low risk profile.

Your Premiums, by default, will be allocated to Jubilee Life Government Securities Fund of the Jubilee Life Insurance. It offers competitive returns with minimum risk, over medium to long-term, by investing in a diversified portfolio of different money market & government debt securities and does not have any investment in equity securities.

However, you have the option to invest in any fund of your choice other than the default investment fund by signing the declaration form.

Your invested premiums are managed by expert investment managers and backed by premium financial securities to ensure optimized returns with manageable risk exposure.

Your premiums will earn investment returns during the term of the plan. At the end of the chosen term, you will receive your accumulated cash value as a lump sum.

Note: The past performance of these funds is not necessarily indicative of the future performance of any of these funds.

Unit prices of Jubilee Life's fund(s) are published in all leading dailies and the Jubilee Life website: www.jubileelife.com

Maturity of the Plan

At maturity of the plan, you will be entitled to the cash value of your policy. If your attained age at maturity is 55 years or above, you will also have an option to use the cash value for providing pension, especially tailored for individuals who prefer a steady stream of income instead of a lump sum amount, at the time of retirement.

Ad hoc Premium Payments

Jubilee Assured Retirement Plan allows you to invest extra funds available with you at any time during the term of the policy and top up your regular investments.

Combating Inflation

In order to combat inflation, you have an option to select indexation in your policy. Selection of this option will increase your premium automatically each year by a limit specified by the Company. However, you retain the right to cancel the indexation if you wish.

Automatic Cover Maintenance

In case you cannot meet your premium payments after the first policy year, you will still be eligible for the life insurance cover, as long as your plan's cash value is sufficient to pay for charges made against your policy.

Access to Savings

You can withdraw your funds (either fully or partially) after completion of two policy years, provided you have paid premiums for two years.

- Partial Withdrawal:** If you need to withdraw your cash value for meeting some emergency needs, but do not want to withdraw the policy, you can withdraw any amount (subject to minimum withdrawal amount prescribed by Jubilee Life Insurance) provided that the residual cash value in your unit account after partial withdrawal is greater than or equal to PKR 24,000* (the residual cash value floor may be reviewed by the company) and two years premiums have been paid. However, your Sum Assured will be reduced by the amount of partial withdrawal. Option for partial withdrawal is available after completion of two policy years and after payment of two annual policy year's premiums.

- Full Policy Surrender:** After the completion of two policy years, given that two full year premiums have been paid, you can surrender your policy. At time of surrender, you will be paid the Cash Value of your funds (s) in full. However, surrender in early policy years may result in lower cash values.

If you continue to invest in the Jubilee Assured Retirement Plan over a prolonged period of time, you can benefit with higher Cash Values in later years. At the time of surrender, you will be paid the accumulated cash value of your fund. However, surrender in early policy years may result in lower cash values.

Pricing Methodology

Jubilee Life follows forward unit pricing methodology. It is worked out by dividing the total value of investments in the fund by the number of active units in the fund as of pricing date.

Other Information

Unit Allocation

Your premium will be allocated towards investment as follows:

Policy Years	Allocation (as % of basic annual premium)
1	60%
2	80%
3	90%
4 & onwards	100%
Ad hoc	100%

Bonus Allocation

Bonus allocated for your investments is provided in the table below.

Policy Years	Bonus Allocation (as % of basic annual premium)
5th year & onwards	3%

Free Look Period

Jubilee Life offers a free look period of 14 days during which you can review your policy's terms and conditions and cancel the policy if needed. Your premium will be refunded on receipt of written request within fourteen (14) days from the receipt of policy documents.

Please note that Jubilee Life reserves the right to deduct the expenses incurred on medical examination, if any.

Charges

Following charges* would apply on the plan:

Bid/Offer spread: 5% of Basic Premium
Investment Management Charge: 1.5% p.a of Fund Value
Administration Fee: Rs. 145 per month
Mortality Charge: As per SECP Filing
Fund Switching: Rs. 500 after first four free switches in a year
Premium Allocation Charge: Premium allocation charge for the year is calculated as hundred percent of the premium received less percentage of the allocated premium for the year.

*All charges are reviewable by Jubilee Life and are subject to change.

Disclaimers:

- This product is underwritten by Jubilee Life. It is not guaranteed or insured by Habib Metropolitan Bank Limited or its affiliates and is not a Habib Metropolitan Bank limited product.
- This is a life insurance product which has two distinct elements i.e., Insurance Protection and Investment. The investment component is linked to the performance of underlying assets under unit linked fund(s).
- The past performance of by Jubilee Life Funds is not necessarily a guide to future performance. Any forecast made is not necessarily indicative of future or likely performance of the funds and neither Jubilee Life nor Habib Metropolitan Bank limited will incur any liability for the same.
- Our sales representative will provide a personalized illustration of benefits to you. Please refer to the notes in the illustration for detailed understanding of the various terms and conditions.
- Please refer to the Policy Documents for detailed understanding of the various terms and conditions.
- Supplementary Benefits may be available if the life covered is aged 55 years or less nearest birthday at the time of issuance.
- Habib Metropolitan Bank limited is acting as a distributor on behalf of Jubilee Life Insurance and is not and shall not be held responsible in any manner whatsoever to any person, including but not limited to the insured customer(s), beneficiary(ies) or any third party.
- Jubilee Life Insurance is the underwriter and provider of this Insurance Policy and shall be responsible for policy servicing

and lodgment, processing, & settlement of claims to the insured customer(s) or beneficiary(ies).

- The investment risk shall be borne by the Policy Holder and actual maturity or surrender values may be lower or higher than the projected figures. A declaration must be signed by the policyholder if he/she opts to invest in a fund other than the default fund.

- Please refer to company website for target asset mix of the underlying fund:
(<https://www.jubileelife.com/funds2/fund-manager-reports/>)

Contact Details

In case of a complaint or for further details, you may contact:

Jubilee Life Insurance Company Limited

74/1-A, Lalazar, M.T. Khan Road, Karachi - 74000, Pakistan.
Phone : (021) 32120201, 35205094
Fax : (021) 35610959
UAN : (021) 111-111-554
SMS : Your Query to 8554
E-mail : info@jubileelife.com, complaints@jubileelife.com
Website : www.jubileelife.com

Habib Metropolitan Bank Limited

Head Office, Spencer's Building, I.I. Chundrigar Road, Karachi, Pakistan.
UAN : 111-14-14-14, 0800-HABIB (42242)
www.habibmetro.com

- سرمایہ کاری کا خطرہ: پالیسی ہولڈر برداشت کرے گا اور اصل سرینڈر ویلیو اور منچورٹی ویلیو پر، جیکولڈ ویلیو سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ پالیسی ہولڈر پہلے سے طے شدہ فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے لیے اعلامیہ پر دستخط کرنا ضروری ہے۔

- براہ کرم بنیادی فنڈ کے ماناگٹ ایسٹکس کی معلومات کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ ملاحظہ کیجیے: <https://www.jubileelife.com/funds-2/fund-manager-reports/>

جوبلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ

ہیڈ آفس: 74/1-A لالہ زار ایم ٹی خان روڈ، کراچی، 74000 ، پاکستان

فون: 35610959 (021)، 32120201، 35205094 (021)، فیکس:

ای میل: info@jubileelife.com, complaints@jubileelife.com

ویب سائٹ: www.jubileelife.com

یو اے این: 111-111-554 (021) ایس ایم ایس: اپنا سوال لکھ کر 8554 پر ارسال کریں

حبیب میٹروپولیٹن بینک لمیٹڈ:

پتہ: ہیڈ آفس، اسپنسرز بلڈنگ،

آئی آئی چندر نگر روڈ، کراچی، پاکستان

یو اے این: 111-14-14-14

0800-HABIB (42242)

ویب سائٹ: www.habibmetro.com